

پریس ریلیز

امریکی سفیر رچرڈ آر ورما نے بھوپال کا دورہ کیا

ممبئی، 25 مئی 2016 -- بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ آر ورما نے 25 مئی 2016 کو ریاست مدھیہ پردیش کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے دوران بھوپال کا دورہ کیا۔

اپنے دورے کے دوران، سفیر ورما نے امریکی کمپنیوں اور صاف توانائی کی اسکیموں کیلئے سرمایہ کاری کے مواقع سمیت، امریکہ-بھارت تعاون پر تبادلہ خیال کیلئے معزز وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ ملاقات کی۔ سفیر نے چیف سیکرٹری انتھونی ڈی سا اور ریاستی وزیر برائے تجارت، صنعت اور روزگار، سرکاری کمپنیوں، کھیل اور بہبود نوجوانان، مذہبی ٹرسٹ و مذہبی امور محترمہ یشودرا راجے سندھیا سے بھی ملاقات کی۔

اپنی سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ، سفیر ورما نے بھارت کی سب سے بڑی مسجد تاج المساجد میں مذہبی رہنماؤں اور طالب علموں سے ملاقات کی۔ سفیر ورما نے کہا ”بھارت کے مضبوط ترین اٹاٹوں اور اسکی متنوع مذہبی برادریوں کے بیچ یہ شاندار مسجد بھارت کے تعمیراتی خزانے کی ایک علامت اور بھارت میں ثقافتی ورثے کی کثرت و فراوانی کی نمائندگی کرتی ہے، اور تاج المساجد میں کچھ وقت گزار کر یہاں ہونے والی فلاحی و تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا ایک غیر معمولی موقع تھا۔“

بعد میں، سفیر ورما نے ون اسٹاپ کرائسس سینٹر ”گوروی“ کا دورہ کیا اور وہاں عملے اور صنفی بنیاد پر تشدد (GBV) میں زندہ بچ جانے والوں کے ساتھ بات چیت کی۔ سینٹر میں، سفیر ورما نے صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے معاملات سے نمٹنے میں سول سوسائٹی گروپوں اور حکومت کی مشترکہ کوششوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر سفیر ورما نے کہا کہ ”گوروی سینٹر بلاشبہ ناقابل یقین کام کرتا ہے، حکومت اور غیر سرکاری تنظیم کے بیچ اشتراک قابل ستائش ہے، اور میں صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد سے نمٹنے کیلئے انکے کاموں کی ستائش کرتا ہوں۔“

سفیر ورما نے ”پرورش“ میوزیم اسکول میں طالب علموں کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ یہ اسکول کچی آبادیوں میں رہنے والے بچوں کی خدمت کرنے کیلئے ایک غیر سرکاری تنظیم آرگنائزیشن فار انٹیگریٹیڈ سوشل سیکورٹی (OASIS) نے 2005 میں قائم کیا تھا۔ سفیر ورما نے موجودہ طلباء اور کئی پروگرام گریجویٹس کے ساتھ بات چیت کی جو ابھی کالج میں ہیں۔ اپنی بات چیت کے دوران، سفیر ورما نے ان طلباء کیلئے انکے مقاصد کے تئیں کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سفیر ورما نے کہا ”پرورش میں طلباء کے ساتھ بات چیت کرنا باعث مسرت تھا۔ دل موہ لینے والے، مشق کے ذریعہ علم حاصل کرنے کے ماحول نے مجھے تعلیمی ضروریات کی تکمیل کیلئے اختراعی متبادلات کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مائل کیا۔ پرورش میں چل رہے اچھے اور اہم کاموں کو دیکھنا واقعی متاثر کن تھا۔“

ممبئی میں امریکی قونصلیٹ جنرل بھوپال اور مدھیہ پردیش کے ساتھ تمام شعبوں میں: صحت، سائنس، اور صاف توانائی میں وسیع تر اشتراک کے ساتھ ساتھ مزید دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی توقع کرتا ہے۔

C-49, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, INDIA

Phone: (91-22)2672-4000, Fax: (91-22)2672-4524.

For more information about our programs and events please visit:

Website: <http://mumbai.usconsulate.gov>; Facebook: www.facebook.com/Mumbai.usconsulate

Follow us on Twitter: www.twitter.com/USAndMumbai